

۳ چاروں قُل تین مرتبہ پڑھ لیجئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۙ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۙ  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۙ وَلَا أَنَا عَابِدٌ  
 مَا عَبَدْتُمْ ۙ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا  
 أَعْبُدُ ۗ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۙ  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۙ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۙ لَمْ يَلِدْهُ  
 وَلَمْ يُولَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۙ  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ  
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ  
 فِي الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۙ

website : www.ibnekaseer.net

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ

۱ گیت ۱۰ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے  
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ  
 الْأَمِیِّ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَّكَ .  
 نوٹ: اس درود شریف کے علاوہ جو درود شریف یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔

۲ سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ  
 مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۙ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ  
 نَسْتَعِیْنُ ۗ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۙ  
 صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ لَا غَیْرَ  
 الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۙ

مرتبہ: اللہ کی رضا کا باب محمد یونس پالپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ  
 اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۙ  
 الَّذِیْ یُوسَّوْسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ  
 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۙ

۳ آیہ الکرسی تین مرتبہ پڑھ لیجئے  
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۙ لَا تَاْخُذُهٗ  
 سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی  
 الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا  
 بِاِذْنِهٖ ۗ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ  
 وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ  
 وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ  
 حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۙ

E-mail : mypalanpuri@ibnekaseer.net

۵ وَلَا یُؤَدُّهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۙ مرتبہ پڑھ لیجئے  
 ۶ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ  
 عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ  
 رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۙ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ  
 اللّٰهُ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ  
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۙ تین مرتبہ پڑھ لیجئے

۷ سَلَامٌ تَقْوَلَا مِنْ رَبِّ رَحِیْمٍ ۙ مرتبہ پڑھ لیجئے

۸ گیت ۱۰ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے  
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ  
 الْأَمِیِّ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَّكَ .

اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر  
 دم کر کے پنی لیجئے اور بولا دیجئے۔

Maktaba ibn-e-kaseer Mumbai Tel.: +9122 23008787 - +9122 23003800